


اُردو پنجابی نعتوں کا حسین مجموعہ

حُسنِ کائنات



حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ

ارشاد مارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد
0300.6674752-0300.7681230
CHISHTIKUTABKHANA@GMAIL.COM

چشتی کتب خانہ

اُردو پنجابی نعتوں کا حسین مجموعہ
تو کائناتِ حُسن ہے تو حُسنِ کائنات

حُسنِ کائنات

بانی شہرِ نعت، نائبِ حسان
حضرت علامہ **صائم چشتی** رحمۃ اللہ علیہ

چشتی کتب خانہ

ارشدمارکیٹ جھنگ بازار فیصل آباد

Email.Chishtikutabkhana@gmail.com

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	حُسنِ کائنات
موضوع	اُردو پنجابی نعتیہ کلام
مصنف	علامہ صائم چشتی
پہلی بار	یکم نومبر 1981ء
پندرہویں بار	اگست 2016ء
تعداد	ایک ہزار
طابع	محمد لطیف ساجد چشتی
کمپوزنگ	چشتی کمپوزرز

پیشکش

صائم چشتی ریسرچ سینٹر

رحمت ٹاؤن غلام محمد آباد نزد ملت کالج فیصل آباد

email.chishtikutabkhana@gmail.com

انٹساب

بصدا احترام و ادب بنام غوث الثقلین

شہنشاہ بغداد، قطب ربانی

غوثِ صمدانی، محبوبِ سبحانی، شہبازِ لامکانی

حضور پر نور سیدنا غوثِ اعظم

سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ

گر قبول اُفتدز ہے عز و شرف

نیاز آگین

صائمِ چشتی

یکم نومبر ۱۹۸۱ء

تعارف مصنف

مفسرِ قرآن، محققِ دوراں، فنا فی الرسول، بانی شہرِ نعت

حضرت علامہ **صائم چشتی** عزائمہ اللہ

از: محترم جناب نور الزماں نوری فاضل منہاج القرآن یونیورسٹی

حضرت علامہ صائم چشتی اردو اور پنجابی کے معروف نعت گو شاعر، ادیب، محقق اور مترجم تھے وہ تمام عمر علم و ادب کے فروغ و اشاعت کیلئے مصروفِ عمل رہے بڑے بڑے نامور نعت گو شاعران کے شاگرد رہے ہیں۔

ولادت

علامہ صائم چشتی کی پیدائش دسمبر 1932ء میں ضلع امرتسر کے قصبہ ”گنڈی وند“ میں ہوئی آپ کا تعلق شیخ برادری سے تھا۔ والد گرامی شیخ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تجارت پیشہ کے ساتھ ساتھ مذہبی لگاؤ بھی رکھتے تھے اور گاؤں کی مسجد میں قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے۔

تعلیم

آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی اور اپنے گاؤں ہی سے حاصل کی قرآن پاک ناظرہ کے علاوہ عربی اور فارسی کی بنیادی تعلیم بھی اپنے والد گرامی سے حاصل کی آپ چونکہ اپنے والدین کی پہلی نرینہ اولاد تھے اس لئے والد نے آپ کی تعلیم کی طرف خاص توجہ دی۔ آپ نے پرائمری گنڈی ونڈ سے حاصل کی، آپ کی سکول کی تعلیم لوئر مڈل سے آگے نہ جاسکی۔

دینی تعلیم

علامہ صائم چشتی نے دینی تعلیم کا آغاز جامعہ رضویہ فیصل آباد کے مولانا سید منصور شاہ صاحب سے صرف و نحو پڑھتے ہوئے کیا۔ موصوف ہی سے آپ نے علوم متداولہ کی تمام کتب پڑھیں اور آٹھ سالہ درس نظامی کا کورس اپنی ذہانت و فطانت کی بنا پر دو سال میں مکمل کر لیا۔ پھر دورہ حدیث شریف جامعہ رضویہ میں شیخ الحدیث حضرت مولانا غلام رسول رضوی سے مکمل کر کے 1970ء میں دستارِ فضیلت اور سند حاصل کی دینی تعلیم کے علاوہ آپ نے طبیہ کالج سے طب یونانی میں ڈپلومہ بھی حاصل کیا۔

سلسلہ چشتیہ میں بیعت

1948ء میں آپ سلسلہ چشتیہ صابریہ کے عظیم روحانی پیشوا پیر طریقت حضرت

پیر سید محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ حق پر بیعت ہو کر خلافت و اجازت سے نوازے گئے اور اس وقت سے چشتی کی نسبت آپ کے نام کے حصہ کے طور پر معروف ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ نے حضرت بابا جی محمود شاہ رحمۃ اللہ علیہ پیر سید علی حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ علی پور شریف اور سیال شریف سے بھی اکتسابِ فیض کیا۔

قیامِ پاکستان کے بعد شیخوپورہ قیام

ضلع شیخوپورہ میں مانا نوالہ کے قریب ایک ”رسولپور لکی“ ہے اسے رسولپور جٹاں بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں قیام پاکستان سے پہلے ہی آپ کے کچھ رشتہ دار قیام پذیر تھے۔ آپ کے والد گرامی بھی اس گاؤں میں تجارت کے سلسلہ میں آتے رہتے تھے، ہجرت کے بعد آپ بھی رسولپور جٹاں میں قیام پذیر ہو گئے۔

شیخوپورہ سے فیصل آباد منتقلی

علامہ صائم چشتی قیام پاکستان کے بعد رسولپور لکی میں رہتے تھے، وہاں سے کاروبار کے سلسلہ فیصل آباد آنا جانارہتا تھا، 1953ء میں فیصل آباد میں اپنے کچھ رشتہ داروں کے ساتھ مل کر کارخانہ بازار میں سوپ میٹریل کا کاروبار شروع کیا اس میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی پھر 1955ء میں کتابوں کے اشاعتی کاروبار سے منسلک ہو گئے اس کاروبار میں ترقی ہوئی اس طرح 1955ء میں آپ کا سارا خاندان رسولپور جٹاں (شیخوپورہ) سے فیصل آباد منتقل ہو گیا۔ یہاں پھر 1964ء میں جامعہ

رضویہ کے باہر ارشد مارکیٹ میں چشتی کتب خانہ قائم کیا جو اب تک علم و ادب اور مذہب و ملت کی اشاعتی خدمات انجام دے رہا ہے۔

شاعری میں مقام

آپ بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نعت لکھتے تھے آپ کے اس جوہر کو فیصل آباد کے مذہبی ماحول میں اور جلاء ملی آپ کی لکھی ہوئی نعتیں شہر میں ہونے والی محافل میلاد اور عرسوں کی تقریبات میں پڑھی جانے لگیں اس سے آپ کا نام شہر میں گونجنے لگا جو جلد ہی پورے ملک میں نعتیہ شاعری کے اعتبار سے مقبول و معروف ہو گیا فیصل آباد میں ہونے والے پنجابی اور اردو کے مشاعروں میں شرکت کی تو ہر طرف سے داد پائی۔

ایک دفعہ دارالعلوم حزب الاحناف لاہور میں ایک بڑا جلسہ ہوا جس میں کثیر علماء موجود تھے وہاں محمد علی ملتانی نے آپ کی لکھی ہوئی یہ نعت پڑھی۔

محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ملا نہ ٹھکانہ تو پھر کیا کرو گے
اس نعت پر علماء نے بڑی داد دی ماہنامہ ”رضوان“ لاہور اور ”ماہ طیبہ“ کوٹلی
لوہاراں نے یہ نعت شائع کی علماء کرام نے بہت شفقت کی بالخصوص فقیہہ عصر عاشق
رسول حضرت مولانا الحاج مفتی محمد امین صاحب مدظلہ العالی نے اس نعت شریف کی
مقبولیت کی وجہ سے آپ کی دعوت کی۔

علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف زبانوں اردو، فارسی، عربی، پنجابی اور سرائیکی پر مکمل عبور تھا وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہونے والی ادبی تقریبات، محافل، میلاد، محافل نعت اور سیرت النبی کانفرنسوں میں شریک ہوتے اور اپنا کلام سنا کر داد حاصل کرتے۔

آپ نے فیصل آباد 1960ء کی دہائی میں ہنگامہ خیز ادبی تحریک شروع کی پنجابی بزم ادب کے وہ بانی تھے اس بزم کے پلیٹ فارم سے آل پاکستان مشاعرے، طرحی مشاعرے اور نعتیہ محافل ان کا طرہ امتیاز تھا 1965ء کی پاک بھارت جنگ کے بعد دھوبی گھاٹ کے گراؤنڈ میں ہونے والا ملک گیر مشاعرہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ تھا اس اجتماع میں ایک لاکھ کے قریب افراد نے شرکت کی اس سے پہلے یا اس کے بعد آج تک اتنی بڑی محفل مشاعرہ اس شہر میں منعقد نہیں ہو سکی آپ مشہور نعت گو شاعر دائم اقبال دائم کی مناسبت سے اپنا تخلص صائم لکھتے تھے۔

آپ کی نعتیہ شاعری اور شاگرد

علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف نعتیہ شاعری کی بلکہ ملک میں نعت گو شاعروں اور نعت خوانوں کی اچھی بھلی جماعت تیار کی کئی شاعر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے اصلاح لیتے تھے اردو اور پنجابی زبان کی اپنی لکھی ہوئی کتب کی تعداد ایک سو سے زائد ہے آپ پورے پاکستان کے شاعروں سے نعت لکھواتے اور

ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے مجموعوں کو شائع کرتے،،

آپ کے چشتی کتب خانہ پر ہر سال منعقد ہونے والی محفلِ نعت پاکستان بھر میں خصوصی شہرت کی حامل تھی اس محفل میں نعت پڑھنے کے لئے ملک کے سینکڑوں نعت خواں منتظر رہتے اور بیچ پر آ کر نعت پڑھنا اپنے لئے سعادت سمجھتے تھے۔

آپ بعض دفعہ ہلکے پھلکے مشاعرے اپنی دکان پر ہی کر ڈالتے داد دینے میں آپ نے کبھی بخل سے کام نہ لیا خصوصاً نوآموزوں کی خوب خوب حوصلہ افزائی فرماتے آپ کی دکان پر اکثر شاعروں اور نعت خوانوں کی مجلس رہتی نعت کے میدان ان کی خدمات کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ فیصل آباد کو شہر نعت بنانے میں آپ اور آپ کے دست راست حافظ محمد حسین حافظ کا بہت بڑا کردار ہے۔

شاعری میں آپ کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے جن میں خاص طور پر درج ذیل اسماء گرامی محتاجِ تعارف نہیں۔ ☆ جناب الحاج یوسف نگینہ صاحب ☆ الحاج طاہر رحمانی المعروف حافظ بجلی ☆ جناب عبدالستار نیازی ☆ جناب سید ناصر حسین چشتی ☆ جناب محمد مقصود مدنی ☆ جناب یسین اجمل ☆ جناب جمیل چشتی ☆ جناب اقبال شیدا ☆ جناب قائد شرفپوری ☆ جناب سید خضر حسین شاہ ☆ جناب واصف بڈیا نوی ☆ جناب بری نظامی ☆ جناب صدق جالندھری ☆ جناب بری نظامی ☆ محمد دین سائل ☆ کوثر علی چشتی ☆ محمد دین پروانہ گوجروی ☆ دلکش فیصل آبادی ☆ محمد یعقوب سفر ☆ محمد امین برق فیصل آبادی ☆ حکیم مشتاق

احمد مشتاق ٹوبہ ☆ محمد اسلم شاہ کوٹی ☆ عبدالحق تبسم ☆ محمد گلزار چشتی ☆ ندیر احمد راقم ☆ عبدالرشید ارشد ☆ محمد رمضان راشد ☆ عاشق علی حق اور ڈاکٹر محمد یونس ملتانی

آپ کی نعتوں میں غنائیت اور نغمگی آپ کے مزاج کا خاصہ ہے آج کل اکثر بڑے بڑے نعت خواں بڑی بڑی محافل میلاد میں آپ کی نعتیں پڑھ کر داد حاصل کر رہے ہیں۔

تصنیفی و تحقیقی خدمات

علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک شاعر ہی نہ تھے بلکہ اردو اور پنجابی زبان کے نامور ادیب، جید عالم اور محقق تھے انہوں نے کئی موضوعات پر تحقیقاتی کتب لکھیں کئی عربی اور فارسی کتب کے تراجم کئے خاص طور پر تفسیر، حدیث تصوف اور عربی منظور کتب کے اردو میں تراجم کر کے اردو دان طبقہ کے لئے بڑا احسان کیا۔

آپ کی کتب کی تعداد 400 کے لگ بھگ ہے آخر میں چند اہم کتب اور تراجم کے نام لکھے جائیں گے آپ نے بے شمار علمی و ادبی موضوعات پر تنہا بے سروسامانی کے عالم میں کسی سرکار گرانٹ کے بغیر انتہائی تحقیقی کام کیا جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے خاص طور پر تفسیر کبیر اور تفسیر ابن عربی کا ترجمہ، ایمان ابی طالب، مشکل کشا، شہید ابن شہید، گیارہویں شریف اور دیوان حضرت ابوطالب کا ترجمہ قابل ذکر ہے۔ جب آپ نے اپنی کتاب ایمان ابی طالب لکھی تو بڑے بڑے علماء کو ورطہ حیرت

میں ڈال دیا تنگ نظروں نے پر تنقید کرتے ہوئے رض کی پھبتی بھی کسی۔ آپ نے ان کی پر راہ نہ کرتے ہوئے امام شافعی کے اس قول کے مطابق اعلان کرتے ہوئے اہل بیت کی محبت میں اپنا تحقیقی سفر جاری رکھا۔ اگر اہل بیت کی محبت رض ہے تو دنیا بھر کے جنوں اور انسانوں کو گواہ ہو جاؤ سب سے بڑا رافضی میں ہوں۔

علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک وسیع ذاتی کتب خانہ تھا جس میں کم و بیش ایک لاکھ کے لگ بھگ مختلف عنوانات پر مختلف زبانوں میں کتب موجود ہیں یہ کتب خانہ محققین اور طلباء کے لئے کھلا رہتا۔

سماجی و رفاہی خدمات

آپ نے تصنیف و تحقیق اور شعر گوئی کے ساتھ ساتھ سماجی، تعلیمی اور رفاہی امور میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔

1 آپ نے اپنے رہائشی محلہ رحمت ٹاؤن نزد غلام محمد آباد میں ایک عظیم الشان ”مسجد سیدنا حیدر کرار“ کی بنیاد رکھی اس مسجد کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا اور ”شبِ وصال“ نماز عشاء تک مسجد کے تعمیری امور میں مصروف رہے۔

2 آپ نے گھر کے قریب ملت کالج کے احاطہ میں ایک مسجد تعمیر کروائی۔

3 عورتوں کی دینی تعلیم و تربیت کیلئے مدرسہ گلشن زہراء کی بنیاد رکھی،

4 فیصل آباد میں نعت خوانوں کی علمی اور فنی اصلاحی اور تربیت کے لئے ”حسان

نعت کالج“ قائم کیا جس میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان¹⁴⁴ کے پروگرام ہوتے ہیں آپ کی 2000 صفحات پر مشتمل نعتیہ کتاب ”ن والقلم“ زیر طبع ہے یہ نعت کے میدان میں آپ کی بے مثال خدمت ہوگی۔

5 آپ نے قوم کی بچیوں کے اندر نعت کا ذوق پیدا کرنے اور اسے فروغ دینے کے لئے حسان نعت کالج برائے طالبات بھی قائم کیا۔

6 ایک لاکھ سے زائد کتب پر مشتمل آپ نے ”چشتیہ لائبریری“ قائم کی جہاں سے بڑے بڑے نامور علماء اور سکالرز اپنے مقالات اور کتب کی تکمیل کے لئے استفادہ کرتے ہیں۔

7 آپ نے لوگوں کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لئے ”چشتیہ روحانی شفا خانہ“ قائم کیا اتوار کے روز دور دراز سے لوگ آپ کی رہائش پر آتے اور جسمانی و روحانی مسائل بتاتے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ ان کی رہنمائی کرتے۔

8 چشتیہ آڈیو۔ ویڈیو لائبریری میں جید علماء کرام کی اڈیو اور ویڈیو کیسٹیں موجود ہیں اور ان میں سے کئی علماء کی تقریروں کو صفحہ قرطاس پر بھی محفوظ کر کے افادہ عام کے لئے چشتی کتب خانہ کی طرف سے شائع کر دیا گیا ہے۔

9 آپ نے کئی سال قبل جس چشتی کتب خانہ کا اجراء کیا تھا اب تک ہزاروں اسلامی کتب شائع کر چکا ہے۔

علاقہ کے طلباء کو قرآن حکیم ناظرہ اور حفظ کی دولت لازوال سے بہرہ ور کرنے

کے لئے آپ نے ”دارالعلوم حیدریہ چشتیہ رضویہ فیصل آباد“ کا قیام فرمایا اس میں طلباء قرآن حکیم کی سرمدی دولت سے اپنے سینوں کو منور کر رہے ہیں۔

وصالِ پاک

علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھرپور زندگی گزارتے ہوئے 22 جنوری 2000ء میں (1420ھ) کورات کے وقت اپنی جان خالق حقیقی کے سپرد کی آپ کی نمازِ جنازہ میں شہر کے ممتاز علماء، شعراء، ادباء اور نعت خوانوں کے علاوہ کثیر تعداد میں عامۃ الناس نے شرکت کی۔

اولاد

آپ کو اللہ تعالیٰ نے چار بیٹیوں کے علاوہ تین بیٹوں کی نعمت سے نوازا بیٹوں کے نام یہ ہیں۔

1 صاحبزادہ محمد لطیف ساجد چشتی

2 صاحبزادہ محمد شفیق مجاہد چشتی

3 صاحبزادہ محمد توصیف حیدر چشتی

آپ کی اولاد کے علاوہ کثیر تعداد میں نعت خواں اور شعراء آپ کے نام اور کام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔

عرس مبارک

ہر سال چودہ شوال المعظم کو آپ کا عرس مبارک نہایت تزک و احتشام سے جامع مسجد سیدنا حیدر کرار رحمت ٹاؤن غلام محمد آباد فیصل آباد میں منایا جاتا ہے۔ مزار مبارک کو غسل دیا جاتا ہے، رسم چراغاں ہوتی ہے، چادر پوشی، ختم شریف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ محفل سماع، نعت خوانی اور علمائے کرام کے خطابات ہوتے ہیں ان مبارک تقاریب میں ملک اور بیرون ملک سے مشائخ عظام شرکت فرماتے ہیں۔

تصنیفات و تحقیقات اور تراجم

(۱) تراجم

آپ کے تراجم میں سے چند نام درج ذیل ہیں۔

1- ترجمہ تفسیر کبیر از امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ عربی سے اردو ترجمہ

{5 جلد}

2- ترجمہ تفسیر ابن عربی از ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ عربی سے اردو {5 جلد}

3- ترجمہ تفسیر خازن امام خازن بغدادی، عربی سے اردو {2 جلد}

4- ترجمہ خصائص نسائی از امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ

5- روضۃ الشہداء فارسی سے اردو ترجمہ {2 جلد}

6- والدین مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) عربی سے اردو

- 7- فتوحات مکیہ، عربی سے اردو {3 جلد}
- 8- انتخاب خطبات حضرت علی رضی اللہ عنہ {اردو ترجمہ و شرح}
- 9- ترجمہ دیوان حضرت ابوطالب، عربی سے اردو
- 10- ترجمہ قصیدہ امینیہ عربی سے اردو (2 جلد)

(ب) تصانیف و تالیفات

آپ کی چند اہم تصانیف درج ذیل ہیں۔

- 1- مشکل کشاء {سیرت حضرت علی رضی اللہ عنہ، 4 جلد}
- 2- البتول {سیرت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا}
- 3- خاتون سیرت {منظوم سیرت سیدہ کائنات}
- 4- ابوبکر قرآن کی روشنی میں "الصدیق"
- 5- ایمان ابی طالب {تحقیقی کتاب} 2 جلد
- 6- گیارہویں شریف
- 7- من دون اللہ کون ہیں۔
- 8- شہید ابن شہید 3 جلد
- 9- المدد یا رسول اللہ
- 10- خطبات چشتیہ 12 جلدیں {چار جلدیں مطبوعہ باقی غیر مطبوعہ} حلفاء

راشدین، آئمہ اہل بیت اور متعدد اولیاء کرام کی سیرت اور حیات و خدمات¹⁴⁴ نظم و نثر میں لکھی کچھ مطبوعہ میں اور کچھ غیر مطبوعہ۔

(ج) کتب نعت

- 1- نوائے صائم چار جلدیں (اردو پنجابی)
 - 2- نور دا ظہور (اردو، پنجابی) 3- میخانہ (اردو، پنجابی)
 - 4- رحمت دا خزانہ (پنجابی) 5- رحمت دے خزینے (اردو پنجابی)
 - 6- محفل نعت (اردو پنجابی) 7- ارمغانِ مدینہ {اردو پنجابی}
 - 8- بلے او تو حیدر یو وڈ یو پچار یو (اردو پنجابی)
 - 9- مدینے دے پھل {پنجابی} 10- مدینے دیاں کلیاں (پنجابی)
- ”ن والقلم“ کے نام سے اردو نعت کا بہت بڑا مجموعہ زیر طبع تھے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ضیائے قلبِ حزیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
جلائے علم و یقین لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نویدِ فتحِ مبین لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
کلیدِ خلدِ بریں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

گلوں کا عرقِ جبیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
دلوں کا حصنِ حصین لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مُرادِ قبلہ دین لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
سوادِ چشمِ امیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کلی کی لوحِ جبیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
خودی کا دُرِّ ثَمیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ہے ذکرِ اعلیٰ تریں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ہے فکرِ گوشہ نشیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کہاں چُنان و چنیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
کہاں زمان و زمیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کہاں مکان و مکیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
جہاں بھی جاؤ وہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ہمہ یسار و ہمیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
کہو گے کیسے نہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

نبی نبی کی صدا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ولی ولی کی نوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

غم و الم کی دوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

دلِ حرم کی ضیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

زوالِ ظلم و جفا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

کمالِ حُسنِ وفا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

دوامِ عشق و ولا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
پیامِ ذوقِ صبا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

صدائے بانگِ درا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
نوائے حور و ملاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

چمنِ چمن کی ہوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
دمنِ دمن کی فضا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مقامِ صبر و رضا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
امامِ راہِ ہدیٰ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

دل و نظر کی جلا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
حضورِ حق کا پتہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

دُرُودِ وَسَلَامِ

صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 صَلِّ عَلَى شَفِيعِنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

خُلد و زمین و آسماں، ڈوبے ہوئے ہیں نور میں
 نُورِ خُدائے لَمُّ يَزَلْ، آیا عجب ظہور میں

صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 صَلِّ عَلَى شَفِيعِنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

عشقِ نبی کی عظمتیں، جس کے نصیب ہو گئیں
 سمجھو خدا کی رحمتیں، اُس کے قریب ہو گئیں

صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ
 صَلِّ عَلَى شَفِيعِنَا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اُن کے کمال ہی سے ہے، سارا کمالِ کائنات ¹⁴⁴
 اُن کا ہی نُورِ پاک ہے، حُسن و جمالِ کائنات
 صَلَّیْ عَلَیْ نَبِیِّنَا صَلَّیْ عَلَیْ مُحَمَّدٍ
 صَلَّیْ عَلَیْ شَفِیْعِنَا صَلَّیْ عَلَیْ مُحَمَّدٍ

جن کے تمام انبیاء، کرتے رہے ہیں تذکرے
 وہ ہیں امامِ انبیاء، دُنیا میں آج آگئے
 صَلَّیْ عَلَیْ نَبِیِّنَا صَلَّیْ عَلَیْ مُحَمَّدٍ
 صَلَّیْ عَلَیْ شَفِیْعِنَا صَلَّیْ عَلَیْ مُحَمَّدٍ

صائم اگر ہو منتظر، اُن کے وُرودِ پاک کے
 اشکوں سے اب نکھار لو، گجرے دُرودِ پاک کے
 صَلَّیْ عَلَیْ نَبِیِّنَا صَلَّیْ عَلَیْ مُحَمَّدٍ
 صَلَّیْ عَلَیْ شَفِیْعِنَا صَلَّیْ عَلَیْ مُحَمَّدٍ

خُدا کا حسین انتخاب آگیا

نور ہی نور ہے کیف ہی کیف ہے باغِ ہستی پہ تازہ شباب آگیا
زُلفِ ولیل کا دائرہ کھینچ کر شب کے پچھلے پہر آفتاب آگیا

غم کے ماروں کو غم سے رہائی ملی آمنہ کو خدا کی خدائی ملی
گود میں جس کی جلوۂ نُورِ ازل بے نقاب آگیا بے حجاب آگیا

مانگنے کی گھڑی آگئی مانگ لو اُن کے دستور کی روشنی مانگ لو
آج یومِ مسرت ہے مظلوم کا آج ظالم کا یومِ حساب آگیا

جس کی یادیں مناتے رہے انبیاء جس کی نعتیں سُناتے رہے انبیاء
جس کی راہیں سجاتے رہے انبیاء وہ خُدا کا حسین انتخاب آگیا

تھی یہی آرزو تھی یہی التجا اپنی محفل میں سرکار آئیں ذرا
 یک بیک نور میں ڈھل گئی جو فضا میری آہوں کا شاید جواب آگیا

مٹ گئیں ظلمتیں چھٹ گئی تیرگی تن گئیں چادریں کیف و انوار کی
 سارے سجدے میں صائم صائم گر گئے بت کدوں میں عجب انقلاب آگیا

حضور آگئے ہیں

ہوا مہکی مہکی فضا لہکی لہکی چمن میں ہمارے حضور آگئے ہیں
تمہیں ہو یہ ساعت مبارک حلیمہؓ کہ گھر میں تمہارے حضور آگئے ہیں

عجب حُسنِ آیا زمین و زماں میں عجب نور ہے جلوہ گردو جہاں میں
جو اب تک نہاں تھے دلِ لامکاں میں وہ لے کر نظارے حضور آگئے ہیں

ہوا حُسنِ محبوبِ جلوہ نما ہے زمین سے فلک تک یہی اک صدا ہے
مبارک تھے آمنہؓ تیرے گھر میں لئے کیف سارے حضور آگئے ہیں

ہیں حُوروں نے ہر سمت جُھر مٹ لگائے ملکِ پابریہ نہ قطاروں میں آئے
سحر آرہی ہے قمر جا رہا ہے جھکے سب ستارے حضور آگئے ہیں

غلاموں کے ملجا، کنیزوں کے ماویٰ اسیروں کے حامی، یتیموں کے مولا
 غریبوں کے والی فقیروں کے داتا جہاں کے سہارے حضور آگئے ہیں

بڑی شان والی یہ صائم گھڑی ہے دو عالم میں پھیلی ہوئی روشنی ہے
 خُدا کی محبت کا پیغام لے کر خُدا کے پیارے حضور آگئے ہیں

نگاہوں کی ضیا بن کر

محمد مصطفیٰ آئے شفیعِ دوسرا بن کر
خلیلِ ربِّ کعبہ کی تمنائے دُعا بن کر

درخشاں ہو گیا نورِ محمد سب زمانے میں
دلوں کی روشنی بن کر نگاہوں کی ضیاء بن کر

بہاروں پر بہاریں آگئیں صحنِ گلستاں میں
مہک زلفوں کی پہنچی ہر جگہ موجِ صبا بن کر

مرے محبوب کو محبوب ہی رہنے دو خالق کا
کبھی محبوبِ خالق آ نہیں سکتا خدا بن کر

ہے لَوْ لَا كَلَّمَا ارشاد کا بس اک یہی مطلب
 جہاں کی ابتداء آئے جہاں کی انتہا بن کر

کچھ ایسے بس گیا ذوقِ سخاوت حسنِ رحمت میں
 سحابِ شانِ رحمت چھا گیا ابرِ سخا بن کر

اُترتے جاتے ہیں صائمِ دلِ اہلِ محبت میں
 میرے بکھرے ہوئے الفاظِ نعتِ مصطفیٰ بن کر

وقتِ ظہور آیا ہے

زمین پہ عرشِ معلّٰی کا نور آیا ہے
خدا کا نور بشکلِ حضور آیا ہے

جمالِ حق کی تجلّی جو پھر نظر آئی
عجیب وجد کے عالم میں طور آیا ہے

مرے حبیب کی آمد ہوئی ہے محفل میں
جبھی تو دل کو یہ کیف و سرور آیا ہے

نگاہِ شوق مبارک ہو ذوقِ دید تجھے
جمالِ جاناں کا وقتِ ظہور آیا ہے

سجے ہوئے ہیں ستارے جو سب کی پلکوں پر
کوئی تو جانِ تمنا ضرور آیا ہے

کہا حضور نے پہلے کرم ہو صائم پر
یہ لے کے سب سے زیادہ قصور آیا ہے

عالی وقار آ گیا ہے

بکھیرے ہوئے رُخ پہ والیل زلفیں شہنشاہِ عالی وقار آ گیا ہے
کیا جس کا اعلان سب انبیاء نے رسولوں کا وہ تاجدار آ گیا ہے

یہ جس کے لئے باغِ جنت خُدا نے بنایا، سجایا، سنوارا تھا صدیوں
وہی ابرِ رحمت، وہی نورِ وحدت گلستاں کی بن کے بہار آ گیا ہے

حجر مسکرائے شجر مسکرائے بتوں نے بھی اللہ اکبر پکارا
چمن درچمن ہیں معطر ہوائیں فضاؤں کے رُخ پر نکھار آ گیا ہے

نہ بدلہ نہ بدلے گا منشور اُن کا اب آئے گا آئے گا دستور اُن کا
محمد کا قانون آکر رہے گا یہ پیغام اب بار بار آ گیا ہے

انہیں نور کہتے ہو تو نور مانگو خُدا سے محمدؐ کا دستور مانگو
اسی میں ہے راحت اسی میں ہے رحمت اسی میں سمٹ کر قرار آ گیا ہے

محمدؐ کی زلفوں کی چھاؤں کے صدقے مدینہ کی ٹھنڈی ہواؤں کے صدقے
کرم کی نظر ہم غریبوں پہ کر دے بڑا امتحاں کردگار آ گیا ہے

تھا اس ماہ میں آیا محبوب تیرا اسی ماہ میں اس کا دستور دے دے
یہی آج لینے ترے در پہ یارب صائم ترا دلفگار آ گیا ہے

آنکھوں کا تارا

بنا جس کی خاطر زمانہ ہے سارا
وہ آیا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا

سُناتے ہیں ہم آج جس کے ترانے
وہ خود آگئے اپنی محفل سجانے
بدل جائے گا اب مُقَدَّر ہمارا
وہ آیا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا

اَرے خوش نصیبو مُقَدَّر جگالو
ادب سے ذرا دامنِ دل بچھالو
ابھی ہو گا حُسنِ ازل کا نظارا
وہ آیا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا

پریشاں نہ ہونا ارے غم کے مارو
 نہ گھبراؤ اب تم ارے بے سہارو
 ملے گا یقیناً ملے گا کناراً
 وہ آیا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا

یہ حُسنِ نبوت کی آمد کی شب ہے
 یہ ماہِ رسالت کی آمد کی شب ہے
 نہ محروم رہنا نہ سونا خدارا
 وہ آیا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا

زمیں پر فدا آج عرشِ بریں ہے
 محمد کی محفل بھی کتنی حسین ہے
 ہے کتنا حسین یہ سماں پیارا پیارا
 وہ آیا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا

مہکتی ہوائیں، فضائیں دھلی ہیں
 یقین ہے کہ آقا کی زلفیں کھلی ہیں
 کریں کیسے ایسے میں جنت گوارا
 وہ آیا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا

ہماری یہ کتنی حسین زندگی ہے
 محبت محمدؐ کی دل میں بسی ہے
 دو عالم کا مالک ہے آقا ہمارا
 وہ آیا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا

یقین ہے کہ خیرات ایسی بٹے گی
 کسی کی بھی جھولی نہ خالی رہے گی
 ہوا رحمتوں کا ہے صائم اشارہ
 وہ آیا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا

آسرا آپ ہیں

یا محمد مرے غم مٹا دیجئے غم کے ماروں کا بس آسرا آپ ہیں
سب کی بھر دیجئے یا نبی جھولیاں دونو عالم کے حاجت روا آپ ہیں

آج سرکار محفل میں آجائیے بہر مولا علی جلوہ دکھلائیے
سب کی مشکل کو آسان فرمائیے میرے محبوب مشکل کشا آپ ہیں

نام لے کر محمد کا ہوں میں چلا میری کشتی کو طوفان کا خوف کیا
وہ نہ ڈوبا نہ ڈوبے گا محشر تک جس سفینے کے بھی نا خدا آپ ہیں

ہوں اذائیں یا کلمہ یا کوئی دعائے جہاں پر خدا ہیں وہیں مصطفیٰ
مَنْ رَانِي جُو فَرْمَان هِيْ اَپْ كَا كُوْن كِهْتَا هِيْ حَق سِيْ جِدَا اَپْ هِيْ

اُن کے دم سے ملی خضر کو زندگی تھے وہ آدم سے پہلے بھی حق کے نبی
سب سے اول وہی سب سے آخر وہی ابتداء آپ ہیں انتہا آپ ہیں

وہ ہیں رحمان کے اُن کا رحمان ہے اُن کی تعریف میں سارا قرآن ہے
اُن کی واللّیل زُلفوں کی صائم قسم ماہِ انوار شمس الضحیٰ آپ ہیں

انوار کہاں تک ہیں

کچھ بھی نہ کوئی سمجھا اسرار کہاں تک ہیں
پھیلے ہوئے آقا کے انوار کہاں تک ہیں

جنت میں مہک اُن کی ہر دِل ہے اسیر اُن کا
جانے یہ ترے گیسو خمدار کہاں تک ہیں

کونین کی ہر شے پر قبضہ ہے محمدؐ کا
کیا سمجھے گا تو واعظ مختار کہاں تک ہیں

یہ ان کا تصرف ہے ہر جام بھرا دیکھا
ساتی ہے مدینے میں میخوار کہاں تک ہیں

ہر ایک مکاں سے تھی آؤ اذنی صدا آگے
مت پوچھو محبت کے آثار کہاں تک ہیں

محبوب اگر صائم پردے سے نکل آئیں
پھر دیکھیں یہ دل والے ہشیار کہاں تک ہیں

تُو شَاہِ خَوِباں

تُو شَاہِ خَوِباں تُو جَانِ جَاناں ہے چہرہ اُمّ الکتاب تیرا
نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مِثال تیری جواب تیرا

تُو سب سے اوّل تُو سب سے آخر مِلا ہے حُسنِ دوام تُوچھ کو
ہے عُمَر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا

ہے کتنا خلقِ عظیم تیرا ہے کتنا لطفِ عمیم تیرا
ہوا نہ جاں کے بھی دُشمنوں پر شہِ دو عالم عتاب تیرا

ہو مُشک و عنبر یا بُوئے جنت نظر میں اُس کی ہیں بے حقیقت
مِلا ہے جس کو ملا ہے جس نے پسینہ رشکِ گلاب تیرا

میں تیرے حُسنِ بیاں پہ صدقے میں تیری میٹھی زباں پہ صدقے
برنگِ خوشبوِ دِلوں میں اُترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا

خُدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ ستر ہزار پردے
جہاں میں بن جاتے طُورِ لاکھوں جو اک بھی اُٹھتا حجاب تیرا

ہے تُو بھی صائم عجیب انساں جو روزِ محشر سے ہے ہراساں
ارے تُو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا

طیب آگیا

کملی والے محمد کے دربار پر جب بھی کوئی سوالی غریب آگیا
اُس کو دونو جہاں کی ملی دولتیں سر بلندی پہ اس کا نصیب آگیا

جھوم اُٹھی فضا نور ڈھلنے لگا آنکھ پر نم ہوئی دل مچلنے لگا
ہار پر ہار اشکوں کے بنتے گئے جب محمد کا روضہ قریب آگیا

یونہی شکوے شکایت نہ کرتے رہو غم کی دولت کو دل میں سمیٹا کرو
فیصلہ ہے یہی بزمِ عشاق کا جب بڑھا مرض خود ہی طیب آگیا

وصل ہو، ہاجر ہو بس تڑپتے رہو ذکر کرتے رہو آہیں بھرتے رہو

پوچھو جامی سے اُس وقت کیا حال تھا سامنے جب تھا شہر حبیب آگیا

نور ہے پھیلا ہر سمت سرکار کا رخ پہ پردہ ہے اپنے ہی انوار کا
سامنے ہیں وہ میں دیکھ سکتا نہیں کس قدر ہے مقامِ عجیب آگیا

تھی یہ معراج کی شب کو صائم صدا قدسیو! گردنیں دوا دہ سے جھکا
انبیاء کو بھی جس نے ہیں خطبے دیئے وہ امام آگیا وہ خطیب آگیا

گرِ سفرِ چاہیے

یا محمد میں جنت نہیں مانگتا تیری بستی میں چھوٹا سا گھر چاہیے
میرے سجدوں کی ہے بس یہی آرزو تیری چوکھٹ تر اسنگِ در چاہیے

غم کے ماروں کا سرکار رکھنا بھرم بہرِ شپیر ہو اک نگاہِ کرم
دُور ہو جائیں گے سارے دُنیا کے غم تیری رحمت بھری اک نظر چاہیے

پُھول کلیاں چمن چاند تارے کہاں کملی والے کے در کے نظارے کہاں
ہو مبارک فرشتو تمہیں کہکشاں مجھ کو طیبہ کی گرِ سفر چاہیے

اے مرے ہمسفر اے مرے ہم نوا مجھ کو قصے نہ حور و جناں کے سنا
مجھ کو بس تو مدینے کا دیدے پتا مجھ کو بس مصطفیٰ کی خبر چاہیے

ہے یہی آرزو ہے یہی التجاء مجھ کو خوشیوں سے کچھ نہ رہے واسطہ
تیرے غم میں مجھے اے مرے مصطفیٰ دردِ دل چاہیے چشمِ تر چاہے

گرچہ دیدار کی میں نے کی ہے دعا پر کہاں میں کہاں سرورِ انبیاء
شرم آتی ہے صائم یہ کہتے ہوئے مجھ کو میری دُعا کا ثمر چاہیے

ہو کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

کرم ہو کرم ہو کرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تمہیں سے ہے سب کا بھرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

ترے پاک دربارِ اقدس کی جانب
جھکی ہے جبینِ حرم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

جہاں انبیا کا تخیل نہ پہنچا
وہاں پر ہیں تیرے قدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

تمہارے ہی جلوے سے روشن ہوا ہے
جہانِ وجود و عدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

تمہیں ابتدا ہو تمہیں انتہا ہو
 تمہیں سے ہیں لوح و قلم یا محمد ﷺ

گرے منہ کے بل اور ہوئے ٹکڑے ٹکڑے
 تجھے دیکھتے ہی صنم یا محمد ﷺ

یہ صائم ترا ذکر کرتا رہے گا
 رہا جب تلک دم میں دم یا محمد ﷺ

کملی والے نگاہِ کرم ہوا گر

کملی والے نگاہِ کرم ہو اگر

پھر دوا چاہیے نہ شفا چاہیے

میں مریضِ محبت ہوں مجھ کو تو بس

اک نظر یا حبیبِ خدا چاہیے

اب تو ہو نظرِ رحمت مرے مُصطفیٰ

آخری وقت ہے تیرے بیمار کا

کچھ بھی اس کے سوا میں نہیں مانگتا

تیرے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے

تو ہی ایمان سے مجھ کو واعظ بتا
 کس سے مانگیں بھلا مُصطفیٰ کے سوا
 انبیاء بھی پکاریں گے محشر کے دن
 مُصطفیٰ چاہیے مُصطفیٰ چاہیے

میرے محبوب عالم کے حاجت روا
 کون جانے کہ رُتبہ ہے کتنا تیرا
 چاہتے ہیں دو عالم خُدا کی رضا
 رَپّ عالم کو تیری رضا چاہیے

تلخِ حشر کیا ہم کو تڑپائے گی
 خُود ہی قدموں میں جنت چلی آئے گی
 بات بگڑی ہوئی سب کی بن جائے گی
 بس ترے نام کا آسرا چاہیے

موت کچھ بھی نہیں موت کیوں ڈروں
 ایک جاں کیا فدا لاکھ جانیں کروں
 روز مَر کر جیوں روز جی کر مروں
 پر مدینہ میں صائم قضا چاہیے

وہ کیسی گھڑی ہوگی

آجاؤ مدینے کی یادو اب آجاؤ
بگڑی کو بنا جاؤ سینے میں سما جاؤ

آجاؤ مہک بن کر، محبوب کی زلفوں کی
ویرانہ دل میرا گلزار بنا جاؤ

جل جائے زباں میری آرام اگر مانگوں
اک بار مگر جلوۂ طیبہ کا دکھا جاؤ

اے زائر و خوش بختو آئے ہو مدینے سے
سرکار کی مجھ کو بھی اک بات سنا جاؤ

کچھ ایسی کرو باتیں پھٹ جائے جگر میرا
 محبوب کی گلیوں کو سینے میں سما جاؤ

وہ کیسی گھڑی ہو گی جب حکمِ نبی ہو گا
 آجاؤ ارے صائمِ اک نعت سنا جاؤ

غم چلے بھی گئے

لیا جو نامِ محمد تو غم چلے بھی گئے
خطا و جرم کے ذہنوں سے زلزلے بھی گئے

بڑے سوال تھے دل میں مگر وہ جب آئے
بیاں کا زور خیالوں کے ولولے بھی گئے

بروزِ حشر فرشتوں سے میرے آقا نے
مجھے چھڑا بھی لیا اور ساتھ لے بھی گئے

حضورؐ ساتھ صحابہؓ کے جب بسوئے چمن
گئے تو ساتھ بہاروں کے قافلے بھی گئے

تَعَيِّنَاتِ مَنَازِلِ جُو هُوں تُو كِيسے هُوں
رہے یہاں بھی گماں سے پرے چلے بھی گئے

شِبِّ وصالِ صَدائے دُنیا کے جھرمٹ میں
مِلا وہ قُربِ کمانوں کے فاصلے بھی گئے

بُروں پہ حشر میں رحمت کو دیکھ کر صائم
بُروں میں نام لکھا کر بھلے بھلے بھی گئے

پیارے کی آمد ہوئی

میرے محبوب پیارے کی آمد ہوئی
راستے زندگی کے سنورتے گئے

اپنے گلشن میں جانِ بہار آگیا
پُھول کلیوں کے چہرے نکھرتے گئے

عرش کا چاند جب فرش پر آگیا
عرشِ اعظمِ سلامی کو جھکنے لگا

آمنہ کا ستارا چمکتا گیا
خم فرشتے جبینوں کو کرتے گئے

کیا بتاؤں حلیمہ کی کیا شان ہے ¹⁴⁴
 گود میں جس کی محبوبِ رحمان ہے
 خازنوں کو جنت بناتے گئے
 میرے آقا جدھر سے گذرتے گئے

کہکشاں بن گئی خاکِ پا آپ کی
 اُن کے آنے سے ساری زمیں سج گئی
 چاند اُن کے اشاروں پہ چلتا رہا
 اُن کے جلوے دلوں میں اترتے گئے

میرے پیارے مسیحا کی پیاری نظر
 پڑ گئی جس بھی بیمار و نادار پر
 غم کے بادل چھٹے ہر المِٹ گیا
 درد جاتے رہے زخم بھرتے گئے

ہر طرف تھے زبانوں پہ پہرے لگے
 کارواں پر رہے چلتے عشاق کے
 صدقہ نعتِ محمدؐ کا صائمِ ملا
 میرے نغمے فضا میں بکھرتے گئے

ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ

بَلِّغِ الْعُلَى بِكَبَائِلِهِ ، كَشَفِ الدُّجَى بِجَبَائِلِهِ
حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ ، صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

ہوں درود تجھ پہ بھی آمنہ تیرے چاند پر بھی سلام ہے
تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہِ تمام ہے

بَلِّغِ الْعُلَى بِكَبَائِلِهِ ، كَشَفِ الدُّجَى بِجَبَائِلِهِ
حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ ، صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

جو رہا تھا عرشِ برین پر وہی چاند اُترا زمین پر
ہوں حلیمہ تجھ کو مبارکیں یہی انبیاء کا امام ہے

بَلِّغِ الْعُلَى بِكَبَائِلِهِ ، كَشَفِ الدُّجَى بِجَبَائِلِهِ
حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ ، صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

وہ جمیل ہے وہ حسین ہے وہ خدا کا نورِ مبین¹⁴⁴ ہے
اُسے کیسے خود سا بشر کہوں یہ جہان جس کا غلام ہے
بَلِّغِ الْعُلَى بِكِبَالِهِ ، كَشَفِ الدُّجَى بِجَبَالِهِ
حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ ، صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

مجھے مت کہو کہ غریب ہے میرا سب سے اونچا نصیب ہے
میں تو بس گدائے رسول ہوں مجھے کیا زمانے سے کام ہے
بَلِّغِ الْعُلَى بِكِبَالِهِ ، كَشَفِ الدُّجَى بِجَبَالِهِ
حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ ، صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

تُو کہاں کہاں مرا تاجور تو زمیں پہ ہے وہ ہے عرش پر
جو مرے نبی کی ہے گفتگو وہ تمام حق کا کلام ہے
بَلِّغِ الْعُلَى بِكِبَالِهِ ، كَشَفِ الدُّجَى بِجَبَالِهِ
حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ ، صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

سجی بزم صائم کمال ہے سبھی مُصطفیٰ کا جمال ہے
 سبھی دو سلامی حضور کو یہی وقت ، وقتِ قیام ہے
 بَلِّغِ الْعُلَى بِكَبَائِهِ ، كَشَفِ الدُّجَى بِجَبَائِهِ
 حَسُنَتْ جَمِيعُ خِصَائِهِ ، صَلُّوْا عَلَيْهِ وَآلِهِ

جمالِ محمد ﷺ

زمیں میں زماں میں، مکیں میں مکاں میں
 جمالِ محمد ﷺ کی جلوہ گری ہے
 چُنیں میں چُناں میں، ہمیں میں ہماں میں
 جمالِ محمد ﷺ کی جلوہ گری ہے

صبا میں ہوا میں، گھٹا میں فضا میں
 ضیا میں جلا میں، خلا میں سما میں
 ترا میں علا میں، مکاں لا مکاں میں
 جمالِ محمد ﷺ کی جلوہ گری ہے

چمن میں کلی میں، خفی میں جلی میں
 نبی میں ولی میں، عمرؓ میں علیؓ میں
 حرم کی گلی میں، جہاں میں جناں میں
 جمالِ محمد ﷺ کی جلوہ گری ہے

گہر میں صدف میں کرم میں شرف میں
 کرم میں شرف، حرم میں نجف میں
 دمِ لا تخف میں عیاں میں نہاں میں
 جمالِ محمد ﷺ کی جلوہ گری ہے

ادا میں نوا میں، رضا میں وفا میں
 حیاء میں بقا میں، عطا میں جزا میں
 سخا میں لقا میں، کراں بیکراں میں
 جمالِ محمد ﷺ کی جلوہ گری ہے

منیٰ میں صفا میں ، حرامیں دُعا میں
 ہدیٰ میں ولا میں قضا میں شفاء میں
 یہی حق ہے صائم کہ ہر اک نشاں میں
 جمالِ محمد ﷺ کی جلوہ گری ہے

طیبہ کا یاد منظر

طیبہ کا یاد منظر جس آن آگیا ہے
آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان آگیا ہے

طیبہ کی یاد آتے ہر آنکھ بھر گئی ہے
اشکوں کے پھول برسے محفل سنور گئی ہے

ذکرِ نبی سے دل میں ایمان آگیا ہے

اشکوں سے کوئی اپنے عصیاں کو دھو رہا ہے

جالی پکڑ کے کوئی چپ چاپ رو رہا ہے

کتنا یہ غم میں ڈوبا عنوان آگیا ہے

لیتے ہیں ہم تو سب کچھ سلطانِ انبیاء سے

کیوں جل رہا ہے ظالم تو نعتِ مُصطفیٰ سے

جب اُن کی نعت بن کر قرآن آگیا ہے

کیسے نہ اُن سے مانگیں نائب ہیں وہ خدا کے
 جاری ہیں دو جہاں میں فرمانِ مصطفیٰ کے
 جبریل بن کے اُن کا دربان آگیا ہے
 اُن کے کرم کے بادل ہر سمت چھا رہے ہیں
 ارمان لے کے لاکھوں طیبہ کو جارہے ہیں
 جن جن کو مُصطفیٰ کا فرمان آگیا ہے
 صائم ہے ایک جیسی عزتِ شہ و گدا کی
 ہر ایک کو یہ کہنا عادت ہے مصطفیٰ کی
 میرے شہر میں میرا مہمان آگیا ہے

ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ

مدینے کی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ
پیامِ سکون و شفا اللہ اللہ

مدینے کی گلیوں کا عالم نہ پوچھو
ہے جنت بھی جن پر فدا اللہ اللہ

رچی ایسی توحید ہے اس زمیں میں
ہیں ذرّے بھی دیتے صدا اللہ اللہ

محمد کے روضے کی خوشبو میں بس کر
جناں کو چلی ہے صبا اللہ اللہ

سلامی کو جن کی ہیں آتے پیمبر
وہ طیبہ میں ہے **وَلِرُبَّا اللّٰهُ اللّٰهُ**

نظر جب پڑی سبز گنبد پہ میری
مُسلسل میں کہتا رہا **اللّٰهُ اللّٰهُ**

ہے صدقہ یہ نعتِ محمد کا صائم
جو ہر شعر میں آگیا **اللّٰهُ اللّٰهُ**

مُصطفیٰ کا نام لے کر

آگیا مجھ کو بھی جینے کا قرینہ آگیا
میری آنکھوں میں محمد کا مدینہ آگیا

مُصطفیٰ کا نام لیکر میں نے چھوڑا تھا جسے
چیرتا موجوں کو ساحل پر سفینہ آگیا

بس وہی اہل نظر اہل محبت ہے جسے
غم کو کھانا آگیا اشکوں کو پینا آگیا

مجھ پہ سرکارِ دو عالم کی عنایت دیکھتے
بحرِ الفت میں فنا ہو کر بھی جینا آگیا

چہرہٴ محبوب کی تابانیوں کو دیکھ کر
چاند کے رُخ پر ندامت کا پسینہ آگیا

کیسے اب اشکوں کو روکوں کیسے آہیں روک لوں
کہہ رہے ہیں ہمنا حج کا مہینہ آگیا

یہ صلہ صائمِ ملا ہے نعتِ گوئی کا مجھے
روضہٴ محبوب پر مجھ سا کمینہ آگیا

میں تجھ پہ قربان یا محمد ﷺ

میں تجھ پہ قربان یا محمد ﷺ یہ پیارا کتنا ہے نام تیرا
عظیم سب سے شان تیری، ہے سب سے اونچا مقام تیرا

پتہ خدا کا ملا ہے تجھ سے ظہور خالق ہوا ہے تجھ سے
نشانِ خالق نشان تیرا کلامِ خالق کلام تیرا

تجھی سے نبیوں نے لی نبوت، ترے کرم سے چلی ولایت
ازل سے لے کر ابد تک ہے یہ جاری فیضِ دوام تیرا

اثر ہے تیری زباں میں کتنا ہے زور تیرے بیاں میں کتنا
وہیں زمانے نے سر جھکایا، جہاں بھی پہنچا پیام تیرا

تجھی سے سب کا بھرم ہے آقا یہ کتنا تیرا کرم ہے آقا
 ہے جو بھی تجھ پر درود پڑھتا ہے اس کو آتا سلام تیرا

صبا یہ صائم کی التجا ہے درِ محمدت پہ جا کے کہنا
 تیرے مدینے سے دور آقا تڑپ رہا ہے غلام تیرا

مدینے میں

دو جہاں کا بھرم مدینے میں
ہے کرم ہی کرم مدینے میں

ہوتے حاضر ہیں انبیاء سارے
ڈگمگاتے قدم مدینے میں

سر کے سجدے تو سوئے کعبہ میں
ہے دلوں کا حرم مدینے میں

ختم ہوتے ہیں ایک ہی پل میں
سارے درد و الم مدینے میں

ہار اشکوں کے پھول زخموں کے
لے کے جائیں گے ہم مدینے میں

سب جہانوں کی لکھتے قسمت ہیں
شاہِ لوح و قلم مدینے میں

میری صائم یہی تمنا ہے
بس نکل جائے دم مدینے میں

مُصطفیٰ کا مدینہ

مُصطفیٰ کا مدینہ رہا سامنے
 قافلہ زندگی کا گذرتا رہا
 یاد آتی رہی زلفِ محبوب کی
 میرا الجھا مقدر سنورتا رہا

انبیاء کا جو سلطان سرتاج ہے
 ہر نبی ہر ولی جس کا محتاج ہے
 کس قدر ہے کرم وہ ہمارے لئے
 جا کے غاروں میں فریاد کرتا رہا

والقمر کی ہے اُن کی جبیں میں چمک
 اُن کے چہرے میں ہے واضحی کی دمک
 اُن کے رُخ کی ضیاء سے تخیل مرا
 نور لے کر دلوں میں اُترتا رہا

مسکرائے جو اک بار میرے نبی
 گلستاں، گلستاں کھل اُٹھی ہر کلی
 نور میں آسمان و زمیں ڈھل گئے
 حُسنِ عالم مُسلسل نکھرتا رہا

دونوں عالم کا داتا ہے میرا نبی
 کون ہوگا زمانے میں ایسا سخی
 فقر و فاقہ میں اپنی کٹی زندگی
 جھولیاں سب زمانے کی بھرتا رہا

میری تھی زندگی پیچ و خم پیچ و خم
 ہر قدم پر لرزتے تھے صائم قدم
 مُصطفیٰ کا کرم تھا کہ طوفان میں
 میرا ڈوبا سفینہ ابھرتا رہا

بات کرو

شبِ وصال میں نورِ سحر کی بات کرو
 علی کے در کی محمد کے گھر کی بات کرو

پھر آج چاند کے رُخ پر پسینہ آجائے
 کچھ ایسے صاحبِ شوقِ القمر کی بات کرو

میری ترستی نگاہوں کو چینِ میلِ جائے
 مدینہ پاک کے دیوار و در کی بات کرو

نبی کے نور کو دیکھے گا بُو لہب کیسے
 کسی بلالؓ کے حُسنِ نظر کی بات کرو

مِری نظر کو ستارے یہ نور کیا دیں گے
رہِ مدینہ کی گردِ سفر کی بات کرو

قدم قدم پہ جہاں نور کی تجلی ہے
مِری حبیب کی اُس رَہگذر کی بات کرو

نصیب درد کی دولت اگر نہیں صائم
جنابِ زہرا کے لختِ جگر کی بات کرو

ہاشمی محترم ہے

یہ مانا کہ ہر اک نبی محترم ہے
مگر سب میں اک ہاشمی محترم ہے

مدینے کے ذروں پہ قرباں ستارے
مدینے کی ہر اک گلی محترم ہے

جسے مصطفیٰ کی محبت ملی ہے
ہے مومن وہی اور وہی محترم ہے

میرے کملی والے کے روضے کے صدقے
زمیں سب کی سب ہو گئی محترم ہے

بڑی شانِ حق نے فرشتوں کو دی ہے
فرشتوں سے پر آدمی محترم ہے

ابوبکرؓ و فاروقؓ اُن کو ملیں گے
نگاہوں میں جن کی علیؓ محترم ہے

کرے کیوں نہ ولیوں سے صائمِ محبت
خُدا کی قسم ہر ولی محترم ہے

مبارک ہو

نبی کی بزم سجانا تمہیں مبارک ہو
رسولِ پاک کا آنا تمہیں مبارک ہو

خُدا کی خاص عنایت ہے اہلِ سُنّت پر
نبی کا ذکر سُنانا تمہیں مبارک ہو

نبی کے در کی زیارت کے بس ارادے سے
دیارِ یار کو جانا تمہیں مبارک ہو

یہ نعت سُن کے محمد کی ذوقِ والفت سے
دِلوں کا وجد میں آنا تمہیں مبارک ہو

لگا کے نعرہ رسالت کا شان و شوکت سے
حصار نجد گرانا تمہیں مبارک ہو

خوشی سے محفلِ میلادِ مُصطفیٰ کر کے
غم و الم کو مٹانا تمہیں مبارک ہو

ہمیشہ ذکرِ محمد کے نور سے صائم
نصیب سوئے جگانا تمہیں مبارک ہو

پنجابی نعتاں

جسدا پاک محمد نام

جس دا پاک محمد نام
اُس تے لکھ دُرود سلام

عربی ماہی ربّ دا پیارا
کملی والا نوری تارا
گُفر ہنیرا مگیا سارا

اُس دا وجّا جد لشکارا
ملیا جس نوں پاک کلام
اُس تے لکھ دُرود سلام

پاک قرآن لیاون والا
 سدّھا راہ دکھلاون والا
 ماڑیاں نوں گل لاون والا
 بدو تخت بٹھاون والا
 ختم نے جس تے سب اکرام
 اُس تے لکھ درود سلام

پاکیزہ منشور ہے اوہدا
 لافانی دستور ہے اوہدا
 رحم ، کرم مشہور ہے اوہدا
 ہر سو کھنڈیا نور ہے اوہدا
 اُس دا سچا پاک نظام
 اُس تے لکھ درود سلام

اُس دیاں سُورج وِچ شُعاواں
 اُس دا حُسن اے وِچ فضاواں
 اُس دِی مہک اے وِچ ہواواں
 اُس دے نور تھیں روشن تھاواں
 نبی وِی اُس دے ہین غلام
 اُس تے ہوون لکھ سلام

ہر اک اکھ نوں نور ملے گا
 ہر اک پُھل مسرُور ملے گا
 ہر ذرّے نوں طور ملے گا
 اوہدا جد دستور ملے گا
 روشن ہو سی جگ تمام
 اُس تے صائم لکھ سلام

آمد ہو گئی ہے

چا چڑھیا سارے عالم نوں سرکار دی آمد ہو گئی اے
ہر پاسے چائن ہو گیا اے، انوار دی آمد ہو گئی اے

خوشیاں نے پھیرا پایا اے ہن نواں سویرا آیا اے
ہن غم کتھے رہ جانے نے غمخوار دی آمد ہو گئی اے

رب پاک کرم فرماوے گا، جو منگناں ایں مل جاوے گا
اج مک گئی ہر مجبوری اے، مختار دی آمد ہو گئی اے

محفل تے مستی چھا گئی اے، وا ٹھنڈی ٹھنڈی آگئی اے
دل والیو دل نوں سانہ لوؤ، دلدار دی آمد ہو گئی اے

گل وچ پا طوق غلامی دا، کرو پورا فرض سلامی دا
 اے محفل والیو بنیاں دے سردار دی آمد ہو گئی اے

جس ورگا ماں نے جنیاں نہیں جس ورگا دوجا بنیاں نہیں
 بے مثل خدا دے اس سوہنے شہکار دی آمد ہو گئی اے

سرکار دے ناں دا صدقہ اے، دلدار دے ناں دا صدقہ اے
 ہُن نعتاں لکھدا جا صائم، اشعار دی آمد ہو گئی اے

حضور آئے نے

نظر دا فرش وچھاؤ حضور آئے نہیں

دِلاں دی سیج سجاؤ حضور آئے نہیں

ستارے بن کے چمک جاؤ پلکاں تے اشکو

تُسیں وی خوشیاں مناؤ حضور آئے نہیں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نعت دے ہر تھاں ترانے چھیڑ دیو

کرو وی رقص ہواؤ حضور آئے نہیں

نبی دی زلفِ سیہ توں میں واراں قدر دی رات

سنجھل کے رہنا گھٹاؤ حضور آئے نہیں

جھکا کے نظرِ عقیدت اوہدی سلامی وچ
 کھڑے ہو سارے ای جاؤ حضور آئے نہیں

بنا کے ہارِ سلاماں آتے دروداں دے
 بصد نیاز لیاؤ حضور آئے نہیں

دیو جے رُوحِ رضا نون پیامِ صائم دا
 قصیدہ نور سناؤ حضور آئے نہیں

جدوں کملی والا آیسی

انوار دی بارش ہندی اے درداں دی دوا ہو جاندی اے
جدوں پڑھئے نعت محمد دی خالق دی ثناء ہو جاندی اے

آیا وارث گل خدائی دا گھر بھر گیا آمنہ مائی دا
سوہنے دے تک کے مکھڑے ٹوں ہر حور فدا ہو جاندی اے

لے لالِ حلیمہؓ آیاں سی رہ گئیاں کچھے دائیاں سی
جد پاک محمد بہہ جاون ڈاپی وی ہوا ہو جاندی اے

سوہنے نے پیدا ہندیاں ای سر سجدے وچہ رکھ دیتا سی
سب امت پہلے سجدے تھیں دوزخ توں رہا ہو جاندی اے

میلادِ نبی دا کردا رہوؤ سوہنے دی سلامی بھردا رہوؤ
میلادِ نبی دی برکت تھیں، مرضاں توں شفا ہو جاندی اے

اج ابر کرم دا چھایا اے، آج نور اوہ رب دا آیا اے
جیہدے نام دے صدقے رب کولوں ہر چیز عطا ہو جاندی اے

جدوں کملی والا آیا سی کی منظر ہو سی اوہ صائم
جد ہُن وی اوہدا نام لیاں، پُر نور فضا ہو جاندی اے

صحیفے دا حوالہ آیا

سارے نبیاں چوں انوکھا تے نرالا آیا
ساری کونین دے منٹھے دا اُجالا آیا

کیتا اعلان سی نبیاں نے جہدی آمد دا
ہر پیمبر دے صحیفے دا حوالہ آیا

دُھل گئے سارے گنہگاراں دے دفتر کالے
سوہنا واللیل دیاں گیسواں والا آیا

پیدا ہندیاں ای جاں سر سجدے چہ رکھیا آقا
رب دی رحمت دے سمندر نوں اُچھالا آیا

شان جسدی چ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آیا
 سب توں شہکار ہے خالق دا اوہ اعلیٰ آیا

نعت سوہنے دی اے بن جانندی سہارا صائم
 غم دی اگ نال جاں ہنجواں نوں اُبالا آیا

نور بے مثال آگیا

دوہاں عالماں چہ ہونیاں رُشائیاں ہے نور بے مثال آگیا
پیاں جگ وچ جیہدیاں دوہایاں اوہ آمنہ دا لال آگیا

جہدا جھنڈا رب عرش تے جھلایا اے

جہدی شان چہ قرآن سارا آیا اے

روڑاں دتیاں سی جیہدیاں گواہیاں اوہ سخی لچپال آگیا

جیہڑا وارث اے غریباں تے یتیمیاں دا

بیڑا تار دیتا جہنے سی حلیمہ دا

جہنوں سمجھیا یتیم ہے سی دایاں اوہ صاحبِ جمال آگیا

جیہڑا آسرا اے سارے خطا کاراں دا

ذمہ آپ لیا جہنے گنہگاراں دا

جہدے نام نے وی دُبیاں ترائیاں اوہ ماڑیاں دی ڈھال آگیا

خاص ساڈے تے احسان ہے حضور دا

صدا کرناں میلاد اسماں نور دا

سبھے نعمتاں حضور جھولی پائیاں جاں لباں تے سوال آگیا

دوہاں عالماندا آیا اج والی اے

رہنا صائم اج کسے وی ناں خالی اے

گھر آمنہ دے جنتاں وی آئیاں جاں نبی باکمال آگیا

دو جگ دا سہارا آیا

دو جگ وِچ رحمت ورہدی اے دو جگ دا سہارا آیا اے
جہیدے نور تھیں بنیا گل عالم اوہ نور ستارا آیا اے

انوار دے بدل چھا گئے نے ہر اکھ وِچ اتھرو پا گئے نے
انج لگدا اپنی محفل وِچہ محبوب پیارا آیا اے

حوراں نے پڑھیا صلّٰی علیٰ گھر آمنہ دے اوہ چن چڑھیا
دو ٹوٹے ہو چن دھرتی تے جہدا ویکھ اشارا آیا اے

در کھول دے سوہنیا رحمت دا دیہہ صدقہ جشن ولادت دا
اسلام اُتے ازماںش دا ایہہ ویلا بھارا آیا اے

میں اپنے ورگا کیوں سمجھاں کوئی اُس جہیا نبی وی نہیں بنیاں
گھنڈ میم دا پا کے مکھڑے تے خالق دا نظارا آیا اے

تاں جُھکیا عرش زمین و تے تاں چن نوں اونا پیا تھلے
دھرتی تے خزانہ رحمت داسارے دا سارا آیا اے

ہو نور و نور جہان گیامک ظلم دا سب طوفان گیا
نہیں کشتی نوں ہُن ڈر صائم خود کول کِنارا آیا اے

ہر پاسے نورِ نظارے نے

ہر طرف اے بارشِ خوشیاں دی
 ہر پاسے نورِ نظارے نے
 آج صدقے کملی والے دے
 رب سب دے بختِ سنوارے نے

آئے چارہ گر بے چاریاں دے
 دکھ مک گئے غم دے ماریاں دے
 اُمت لئی پیدا ہندیاں امی
 سجدے محبوب گزارے نے

افلاک دے تارے جھک گئے نے
 کعبے دے منارے جھک گئے نے
 نیوں نیوں کے سلامی دتی اے
 محبوب نوں عالم سارے نے

سب دُنیا نور و نور ہوئی
 ہر جھولی اج بھر پور ہوئی
 محبوب دے صدقے خالق نے
 اج دونویں عالم تارے نے

جو چین دے اندر چمک رہیا
 جو سورج دے وچ دَمک رہیا
 گھر آمنہ دے اوہ نور آیا
 جس نور دے سب چمکارے نے

والشمس کہیا، یسین کہیا
 بُرہان تے نور مبین کہیا
 محبوب دی صائم نعت پڑھی
 قرآن دے اک اک پارے نے

ہر طرف اے بارش خوشیاں دی
 ہر پاسے نور نظارے نے
 اج صدقے کملی والے دے
 رب سب دے بخت سنوارے نے

شانِ مدینے دی

دِل میرا چھیڑی بیٹھا اے اج درد تے غم دیاں تاراں نوں
 ہن وقتِ اخیرِ آجاؤ کوئی جا دے سرکاراں نوں
 سُن قصے پاکِ مدینے دے سب گھل گئے نے پھٹ سینے دے
 دِل میرے اُتے پھرن دیو اج ہجر دیاں تلواراں نوں
 کر دِل تے جان نثار دیاں سب ہنجواں دے پھل وار دیاں
 محبوبِ مرا جے آجاوے لے نالِ مدینیوں یاراں نوں
 اوہ زاریاں کر دے رہندے نیں نت ہاواں بھر دے رہندے نیں
 اک وار جنہاں نے ویکھ لیا طیبہ دیاں باغ بہاراں نوں

کی پُچھدا ایں شان مدینے دی جنت فردوس دے زینے دی
 طیبه دے پھل تے اک پاسے پئے چُمدے عاشق خاراں نوں

راہوں وچہ بھلدے پھر دے آں پیراں وچہ رُلدے پھر دے آں
 اک وار تے کول بلا سجناں صائم جئے اوگنہاراں نوں

دو گھڑیاں آجا کوئی گل نہیں

چھڈ روندیاں جاون والٹریادو گھڑیاں آجا کوئی گل نہیں
گجھ گلاں باغِ جناں دیاں اج آکے سنا جا کوئی گل نہیں

اسیں راہوں تیریاں تکدے آں دل رونا بول نہ سکدے آں
کدی خواب چہ آکے محبُوباً، ٹھنڈ سینے پا جا کوئی گل نہیں

اگھ روندی دل گر لانا اے اک پل وی چین ناں آندا اے
اس اپنے پیار دی محفل نوں اک وار سجا جا کوئی گل نہیں

اساں رور و ہاڑے کر دیاں دے نہ جیوندیاں تے ناں مردیاں دے
دیدار دی خیرات عطا کر کے سب دکھڑے مکا جا کوئی گل نہیں

کتے دلِ رووے کتے اکھ رووے کوئی بہہ کے سب توں وکھ رووے
 ایہناں اکھیاں روندیاں سگدیاں نوں دیدار کرا جا کوئی گل نہیں

اسیں سوہنیا ڈکھڑے جردے آں اسیں اج وی اڈیکاں کردے آں
 چن تیرے باہجھ ہنیر پیا آ چانن لا جا کوئی گل نہیں

سب پھل زخماں دے دھولتے نے ہنجواں دے ہار پرولتے نے
 ہن صائم دل دی سیج اتے آ جلوہ فرما جا کوئی گل نہیں

ناں اے ترا

میرے لُوں لُوں دے وچہ رچیا نانا اے ترا
 ذکر تیرا مری زندگی سوہنیا
 غوثاں، قُطباں تے ولیاں دی کاہدی اے گل
 تیرے منگتے نے سارے نبی سوہنیا

نال ہنجواں دے اکھیاں دا کر کے وضو
 لے کے بیٹھا ہاں بس ایہو ای آرزو
 چیر کے اپنا دل فرش تیرا کراں
 میرے وٹے جے آویں کدی سوہنیا

کیوں میں شکوہ کراں اے میرے ¹⁴⁴دِرُّبَا
 تیری رحمت نے کیتا ہے سب کچھ عطا
 تینوں ویکھاں تے ہو جاواں تیتھوں فدا
 ایہو حسرت اے بس ہے رہ گئی سوہنیا

ہور وی آقا ہے اک میری التجا
 اپنے کتیاں دے وچہ نام لکھ لے میرا
 کر دے نظرِ کرم صدقہ شہیرا دا
 تیرے در تے ہے کاہدی کمی سوہنیا

توں شہِ دوسترا توں حبیبِ خُدا
 توں ایں شمسِ لُضحیٰ توں ایں بدرالدُّجیٰ
 چن سورج دے وچہ ہر ستارے دے وچہ
 نور تیرے دی اے روشنی سوہنیا

تیتھوں منگے وی صائم تے کی سکدا منگ
 تیری رحمت بڑی میری جھولی اے تنگ
 تیرے سارے گداواں دا میں ہاں گدا
 سارے سخیاں دا توں ایں سخی سوہنیا

درد و غم دی دوا کول تیرے

کرم کر، کرم کر، کرم میرے آقا
 عطا کول تیرے سخا کول تیرے
 خُدا دی خُدائی دا مختار توں ایں
 خُدائی کی آقا خُدا کول تیرے

تیرے کول سارے خزانے خُدا دے
 تیرے درتے جھکدے نے سہرا نبیاء دے
 مِرے مرض غم والے سارے مٹادے
 دوا کول تیرے شفا کول تیرے

سناواں میں کس تاں تیں درداں دا جھیرا
 ترے باہجوں محبوب دردی اے کھیرا
 صبا نے وی آکے نہیں دیتا سنہیرا
 کدوں اوناں تیرے گدا کول تیرے

کرم دی نظر یا نبی مصطفیٰ کر
 علی دی شہادت دا صدقہ عطا کر
 ترے درتے کی اے کمی یا محمد
 عطا کول تیرے سخا کول تیرے

ہے محبوب لو لاک دا تاج تیرا
 زمانے دی ہر شے تے ہے راج تیرا
 اشارے ترے تے پلٹ اونداسورج
 تے چن ہو کے دو جاندا آ کول تیرے

تُوں سارے رَسُو لااں تے نبیاں توں سوہنا
 ترے ہونے تھیں ساری دُنیا دا ہونا
 ہے تیرا ای صائم نوں آقا سہارا
 مرے درد و غم دی دوا کول تیرے

دیندا صداواں رہیا

کملی والے دا دیدار ہووے عطا کردا ہر ویلے میں التجاواں رہیا
 آوی جا سو ہنیا صدقہ حسنین دا میں صداواں تے دیندا صداواں رہیا
 شان پُچھدا ایں کی شاہ کونین دی سرورِ انبیاءِ جَدِ حسنینؐ دی
 ظلم جردا رہیا رحم کردا رہیا کھا کے پتھر تے کردا دُعاواں رہیا
 کتھے رہنا سی قائم ایہہ میرا بھرم جے ناں ہندی محمدؐ دی نظرِ کرم
 میں خطاواں تے کردا خطاواں رہیا اوہ عطاواں تے کردا عطاواں رہیا
 رب نے سوہنے توں سوہنے بنائے نبی رُتبے اعلیٰ توں اعلیٰ وی دتے کئی
 اچّا میرے ای سوہنے دا رُتبہ رہیا اچّا میرے ای آقا داناواں رہیا
 کلا صائم تے غم سب زمانے دے سی بجلیاں دی نظر آشیانے تے سی
 پڑھ کے صلیٰ علیٰ سوہنے محبوب تے دُور کردا میں سبھے بلاواں گیا

روک لوواں

میں رات خوشیاں دی سوہنی سہانی روک لوواں
سنے ناں یار تے غم دی کہانی روک لوواں

رُکے جے خواب چہ آ کے حبیب دو گھڑیاں
میں جان دے کے وی دل دا اوہ جانی روک لوواں

ایہہ تحفہ یار دی دیتا اے یاد نے مینوں
بھلا میں ہنجواں دی کیویں روانی روک لوواں

جے غم ہے آوندا دوجا تے اک چلا جاندا
کیویں میں یار دی ہر اک نشانی روک لوواں

ہے ایہو دل دی تمنا کہ میں وی دو گھڑیاں
نگاہِ ناز دی جلوہ فشانی روک لوں

بڑھاپا آیا اے صائم تے آوے سو واری
دعا ہے ایہو کہ غم دی جوانی روک لوں

رحمت ہے تیرا لقب

دونہہ جہاناں دی رحمت ہے تیرا لقب
 نظرِ رحمت غریباں تے کر سوہنیا
 خیر دیدار دا ہُن تے کر دے عطا
 سِکدے سِکدے ای جاپیئے نہ مر سوہنیا

تیرے در دی غلامی کرن انبیاء
 تیری تعریف کردا اے ربُّ العالی
 لیلۃ القدر صدقے تیری زلف توں
 تیرے چہرے توں صدقے قمر سوہنیا

تیرا دیدار خالق دا دیدار ہے ¹⁴⁴
 سارے پھلاں دے وچ تیری مہکار ہے
 ذرے ذرے دے وچہ تیری چمکار ہے
 پتے پتے چہ تُوں جلوہ گر سوہنیا

شان نبیاں چوں تینوں گرامی ملی
 ہر پیمبر دی تینوں سلامی ملی
 تیرے در دی ہے جس نوں غلامی ملی
 اوہنوں کاہدا جہنم دا ڈر سوہنیا

بھانویں کعبہ تے بھانویں ہے عرشِ علی
 بھانویں جنت تے خواہ سِدْرَةُ الْمُنْتَهٰی
 سب توں سوہنا اے دربارِ عالی ترا
 سب توں سوہنا ایں تیرا ای گھر سوہنیا

مان رکھ لے میرا، میرا رکھ لے بھرم
 در تے آواں جے ہو جاوے تیرا کرم
 کول میرے ہے بس بے بسی بے کسی
 میرے پلے نئیں مال و زر سوہنیا

کچھ وی ملدا نئیں تیرے در دے سوا
 ترا در دونہ جہاناں دا ہے آسرا
 ہو کے صائم ترے پاک در دا گدا
 ٹھوکراں کھاوے کیوں در بدر سوہنیا

سبھے گلّاں بھلیاں نے

جس دن دیاں اکھیاں لگیاں نے اُس دن دیاں اکھیاں کھلیاں نے
اک یاد سجن دی رہ گئی اے ہُن سبھے گلّاں بھلیاں نے

میرا یوسف شاہ اسوار کدوں رب جانے پھیرا پاوے گا
اساں سُنّت سمجھ زلیخا دی وچہ راہ دے پائیاں گلیاں نے

اک تاہنگ سی یار دے ملنے دی جہنے مردیاں مردیاں روک لیا
کئی وار طوفاناں گھیریا اے کئی وار ہنیریاں جھلیاں نے

ناں جانے چڑھ کے سولی تے منصور کی کہہ گیا دُنیا نوں
اُس دن توں دار دی تکرّی وچہ کئی لکھاں جاناں تھلیاں نے

میں گھل کے جس دن رو یا ساں سر رکھ کے یار دے قداں تے
بس میری گل حیاتی وچہ اوہ دو گھڑیاں ان مٹلیاں نے

اوہ صائم ترفن ہر ویلے جو یار دی نظر نیئیں چڑھیاں
جو یار دی نظرے چڑھ گئیاں اوہ پھیرناں ہلّیاں جلیاں نے

ہوامدینے دی

دِلاں دے درد دا داڑو ہوا مدینے دی

کراوے سب نوں زیارت خُدا مدینے دی

کی حال پُچھدے او میرے توں میرے رون دا

ہے یاد آپے ای دیندی روا مدینے دی

سراپا خُلد ہے طیبہ دا ہر گلی گُوجہ

تے خاک ساری اے خاکِ شفا مدینے دی

میں تیرے راہواں توں اپنی حیاتی وار دیاں

خبر سناویں جے آکے صبا مدینے دی

کی ذکر اتھے گداواں تے بادشاہواں دا
خُدا دی ساری خُدائی گدا مدینے دی

مدینے پاک چوں عرشاں نوں نور جاندا اے
ہنیرے دل دا سہارا ضیا مدینے دی

نہ چاہواں دنیا نہ جنت دی ہے طلب صائم
ہے میرے لب تے ہمیشہ دُعا مدینے دی

سد لے مدینے والیا

آساں بیٹھے آں مدینے دیاں لا کے توں سد لے مدینے والیا
ہنجو پکاں تے بیٹھے آں سجا کے توں سد لے مدینے والیا

پار کر دے سفینہ مرا سوہنیا

رہوے وسدا مدینہ ترا سوہنیا

گنہگاراں اُتے رحم فرما کے توں سد لے مدینے والیا

تینوں واسطہ ای تیرے ہر یار دا

تینوں واسطہ مدینے دی بہار دا

میرے سستے ہوئے لیکھاں نوں جگا کے توں سد لے مدینے والیا

جنتھے مہرکاں نے رچائیاں تیرے پیار نے

جنتھے جنتاں وی ہندیاں نثار نے

میں وی گلیاں اوہ ویکھ لواں آکے توں سد لے مدینے والیا

جدوں حج دیاں ہندیاں تیاریاں

پھر جانڈیاں سینے اُتے آریاں

کیویں رکھاں اپنے دُکھاں نوں دبا کے توں سد لے مدینے والیا

تُسی جان دے او شاہا میرے حال نوں

تسی جان دے اوہ دلاں دے سوال نوں

نُوری مکھڑے توں پردہ اُٹھا کے توں سد لے مدینے والیا

سُن صائم بے تران دیاں زاریاں

رب دتیاں نے تینوں مختاریاں

ترس ماڑیاں غریباں اُتے کھا کے توں سد لے مدینے والیا

میریاں ناں آیاں واریاں

ٹُڑے قافلے مدینے ول جاوندے تے میریاں ناں آیاں واریاں
بھاگاں والے ہین خوشیاں مناوندے تے میریاں ناں آیاں واریاں

جتھے جلوے ہمیشہ نے حضور دے

جتھے ٹُٹ گئے نے مان کوہِ طور دے

حاجی جالیاں اوہ سینے نال لاوندے تے میریاں ناں آیاں واریاں

ساڈا تیرے بنا کیہڑا ہور سوہنیا

تیرے ہتھ وچہ ساڈی ڈور سوہنیا

تُسیں لکھاں نوں بلا کے خیر پاوندے تے میریاں ناں آیاں واریاں

ہنچو غماں والے اکھیاں چہ بھر کے

منہ سوہنیا مدینے وٹے کر کے

خیراں راہیاں دیاں رہندے ہاں مناوندے تے میریاں ناں آیاں واریاں

یاد کر کے مدینے دی بہار نوں

یاد کر کے کبوتریاں دی ڈار نوں

ہنچو اکھیاں چہ بار بار آوندے تے میریاں ناں آیاں واریاں

دُکھ ہجر والا جھلیا نئیں جاوندا

اٹھے پہر صائم رہوے کرلاوندا

غم جان نوں ہمیشہ رہندے کھاوندے تے میریاں ناں آیاں واریاں

سوہنے شہر دیاں

موجاں وچہ موجاں آجاون ہنجواں دی وگدی نہر دیاں
جد گلاں کردا اے کوئی سوہنے دے سوہنے شہر دیاں

خواہ چن دھرتی تے ڈھک آوے یاں یوسف برقع چک آوے
جنہاں تکیا کملی والے نوں اوہ نظراں کتے نہیں ٹھہر دیاں

اکھیاں نوں چانن مل جاوے گھوہ کھارے مسٹھے ہو جاوون
لب پاک اوہدا جد لگ جاندا تاثیراں بدن زہر دیاں

سرکار دے روضے تے جا کے سب عیب اوہناں دے دھل جاندا
مل جان جنہاں نوں دو گھڑیاں روون لئی پچھلے پہر دیاں

ایہہ جرم تے ساڈے ہر ویلے اللہ دا غضب بلاندے نے
 ڈھک لیندی رحمت سوہنے دی سب سختیاں رب دے قہر دیاں

محبوب دی بستی دی صائم پر کیف فضا کی پچھناں ایں
 طیبہ وچ ٹھنڈیاں ہو جاون سب تیزیاں سحر دوپہر دیاں

میں وی مدینے جاواں

اللہ اوہ دن لیاوے میں وی مدینے جاواں
ٹھنڈیاں نے جتھے چھاواں پُر کیف نے ہواواں

جتھے جہاں دے سارے گلشن مہک رہے نے
جنہاں دی یاد اندر پنچھی چہک رہے نے
اوہناں نوں جا سناواں دُکھ درد ہوکے ہاواں
اللہ اوہ دن لیاوے میں وی مدینے جاواں

دربار جا کے ویکھاں سلطانِ دو جہاں دا
سر جتھے جھک رہیا اے عرشاں تے لا مکاں دا
اُس پاک دردے اتے سر میں وی جا جھکاواں
اللہ اوہ دن لیاوے میں وی مدینے جاواں

اکھاں دے نال چُماں روضے دی پاک جالی
 روضے دے اُتوں واراں ہنجواں دی نالے ڈالی
 لے کے غبار در دا اگھاں چہ جا کے پاواں
 اللہ اوہ دن لیاوے میں وی مدینے جاواں

جھکدی اے جتھے صائم دنیا دی کجکلا ہی
 ویکھاں اوہ پاک تھاواں پھر دا سی جتھے ماہی
 اوہ نور بیز تھاواں اوہ جانفزا ہواواں
 اللہ اوہ دن لیاوے میں وی مدینے جاواں

مقدر سنور جائے گا

یا محمدؐ جے در نہ دکھایا تُساں ہو کے بھر بھر کے مجبور مر جائے گا
تیری ہونی ایں بس اک نگاہِ نظرِ کرم میرا کاسہ امید اں دا بھر جائے گا

گیت تیرے ہی محبوب گانداہاں میں تیرے ہر دمِ قصیدے سُنانداہاں میں
میں قیامت نوں جد نام تیرا لیا میرے کولوں جہنم وی ڈر جائے گا

ایس دُنیا دا کی اے بھروسہ شہا دیتا دُنیا نے کی اے غماں دے سوا
تیرے ولوں جے ملدا رہوے حوصلہ وقت جیہڑا وی آیا گذر جائے گا

میری کشتی نوں ڈرکا ہدا طوفان دا میں گداہاں مدینے دے سُلطان دا
یا محمدؐ جاں دتی صدا دُدا دُدا سفینہ وی تر جائے گا

کردے نظرِ کرم درداں مارے تے ہُن رحم ہو جاوے اس بے سہارے تے ہُن
تیرا جاناں اے کی اے مرے تاجور عاصیاں دا مقدر سنور جائے گا

سُن کے صائم دے ہاڑے تے آسو ہنیا میرے سستے مقدر جگا سو ہنیا
تیرے آون تھیں والشمس رُخ والیا ہو منو ر غریباں دا گھر جائے گا

آواں مدینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہے میری آرزو آواں مدینے یا رسول اللہ

ناں رُک ارمان دے جاون سفینے یا رسول اللہ

نصیبیاں اُچیاں والے ترے دربار تے جان دے

تڑفدے دور میرے جہئے کینے یا رسول اللہ

میری جھولی نوں بھر دیناں کی مشکل ہے تساں اگے

ملے سب آپ نوں ربدے خزینے یا رسول اللہ

غماں دے ماریاں ہویاں دے تیرے ہجر دے اندر

گذردے وانگ صدیاں دے مہینے یا رسول اللہ

ترے دربار تے شاہی ملی ادنیٰ گداواں نوں
بنے ذرے تری راہ دے گننے یا رسول اللہ

تری دہلیز تے جھکدا اے سر دنیا دے شاہواں دا
ترے منگتے پیمبرؐ تے ”نبی“ نے یا رسول اللہ

ہے کیتا ماند سورج ، چن نوں مبہوت کر دیتا
ترے انوار دی جلوہ گری نے یا رسول اللہ

سخاوت آپ دی دے تے کی دے بھلا صائم
ترے منگتے وی شاہواں توں سخی نے یا رسول اللہ

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سوالی تیرے نہیں خاکی تے نوری یا رسول اللہ
تُسی کردے اوسب دی آس پوری یا رسول اللہ

ترے قداماں دے تیکر پہنچنا معراج ہے میری
ہے تیری حاضری میری حضوری یا رسول اللہ

میں رو رو منگدا رہنا ترے دربار دی قربت
خدارا کر دیو ہُن دُور دُوری یا رسول اللہ

ترے دربار عالی دے فقیراں دی گداواں دی
نہیں رہندی آرزو کوئی ادھوری یا رسول اللہ

کسے عاقل تے بالغ تے سیانے دی نہیں گل اتھے
 تری تعریف ہووے لا شعوری یا رسول اللہ

ترا ناں لیندیاں انج رقص کردا قلب صائم دا
 جویں نچدے سی بلھے شاہ قصوری یا رسول اللہ

سب رسولوں یا رسول اللہ ﷺ

زمانہ موہ لیا تیرے اُصولوں یا رسول اللہ
گواہی تیری دتی سب رسولوں یا رسول اللہ

مرے سینے دے اندر رڑکدے کٹدے جدائیاں دے
مرے رہواں دیوچ وچھیاں نے سولوں یا رسول اللہ

نزع دے وقت جے آپ دا دیدار ہو جاوے
میں ایسی موت نوں ہس کے قبولوں یا رسول اللہ

خدا نے خودتساں تائیں سکھایا اے پڑھایا اے
کدوں جان دے نے اُمّی وچ سکولوں یا رسول اللہ

تُساں نوں نور منیاں؛ پاک نظراں والیاں سبھناں
 تے اپنے ورگا کہہ دیتا جھولاں یارسول اللہ

صبا پیغام صائم دے جے ناں لے آوے آقا دا
 ودھا کے ہتھ ہنجواں دے وصولاں یارسول اللہ

سویرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کدوں کھٹے گا قسمت دا ہنیرا یا رسول اللہ
جے آجاؤ تے ہو جاوے سویرا یا رسول اللہ

سناواں کس نوں غم اپنا میں تیرے باہجھ محبُوبا
ناں ہے تیرے سوا کوئی وی میرا یا رسول اللہ

میری کلکھّاں دی گلی غیرتِ افلاک ہو جاوے
تساڈا اک وی پے جاوے جے پھیرا یا رسول اللہ

چمن اُمید دا ویران ای کدھرے نہ ہو جاوے
خزاواں کر رہیاں نے تنگ گھیرا یا رسول اللہ

گدا اوہ بادشاہواں دے وی اُتے راج کردا اے
جنہوں مل جاوندا دربار تیرا یارسول اللہ

تری عظمت دے جھنڈے جھلدے نیں لامکاناں تے
علم تیرا اے عرشاں توں اُچیرا یارسول اللہ

گرم تیرے نے رکھیا اے بھرم صائم دا ہر ویلے
میں چکيا بھار جُرموں دا بتھیرا یارسول اللہ

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

غماں نے بولیا آ کے ہے دھاوا یا رسول اللہ
مرا دل ہو گیا رو رو کے پھاوا یا رسول اللہ

چلے چلے ہاں روندے تڑفدے دربار تیرے چوں
کدوں ہووے گا ہُن مُڑ کے بلاوا یا رسول اللہ

کدوں مگے گی کالی رات ہُن مُڑ کے جدائیاں دی
کدوں ویکھاں گے مُڑ گنبد ایہہ ساوا یا رسول اللہ

سلام الوداعی کہندیاں پھٹ دا اے دل میرا
سنجالاں کس طراں ہنجواں دا لاوا یا رسول اللہ

تیرے بردے ملک حُوراں تیرے گولے نبی سارے
کراں کیویں غلامی دا میں دعویٰ یا رسول اللہ

تری اُمت دا اک مجرم وی دوزخ وچہ نئیں رہ سکناں
تری رحمت نے جد بھریا کلاوہ یا رسول اللہ

سُنے گا کون دُکھ صائم دے تیرے باہجھ محبوبا
کرے گا کون بن تیرے مداوا یا رسول اللہ

(ایہہ نعت مدینہ پاک توں واپس ہندیاں لکھی گئی)

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں بُو ہے پکاں دے اک پل نہ ڈھوواں یا رسول اللہ

تُساڈی یاد وچہ تڑفاں تے روواں یا رسول اللہ

زمانہ ہر قدم تے ڈیگ دا مینوں رہوے آقا

کرم تیرے تھیں مُڑ مُڑ میں کھلوواں یا رسول اللہ

چراغاں کر لوواں میں دل دیاں تاریک راتاں وچ

تُساڈے غم دیاں لے لے کے لوواں یا رسول اللہ

مرے کچے نے اتھرو کچ دے موتی جیویں ہندے

کیویں میں ہار ایہناں دے پروواں یا رسول اللہ

بس ایہو آرزو میری تے ایہو ایتجا میری
 ترے دربار تے حاضر میں ہوواں یا رسول اللہ

مرے عملاں دا دفتر کالیاں راتاں توں کالا اے
 کوں ہنجواں دے پانی نال دھوواں یا رسول اللہ

تڑف کے اتھرو اکھیاں چوں صائم باہر آجاندے
 ہتھیرا میں تے درداں نوں لکوواں یا رسول اللہ